

40 AHADITH

English Translation	Urdu Translation	Hadith	S.No	The thigh is Awrah (the part of the body that must be covered at all times)	مان شرمنگہ ہے (ان جسیں ..... ہیں)	الفَجْدُ غُورَةٌ	21
Begin from the right side	عَمَّا يُبَلِّغُكُمْ مَا يَأْتِي بَيْنَ أَيْمَانِكُمْ وَأَيْمَانِ أَهْلِكُمْ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ	1	Returning from Jihad is like Jihad	جہاد سے باہم بھی جہاد کی طرح ہے۔ (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ)	فَلَمَّا كَفَرُوا	22
The People of Yemen have faith	كَانُوا إِيمَانُهُمْ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ إِيمَانِ أَهْلِيْنَهُمْ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْإِيمَانُ يَمَنٌ	2	Take your precautions and put your trust in ALLAH	پانچھار رکن کر (سریعہ ..... ہیں)	قَدْ وَنُوكُلٌ	23
Intercede for the people you will be rewarded	(بَارِز) خَاتَمُ الْكَوَافِرِ (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ مِنْ أَهْلِكُمْ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	إِشْفَعُوا وَتُؤْجِرُوا	3	The older one should go first	بُوادِيل کر کے (کل جانشی ..... ہیں)	كُبْرٰى الْكُبُرِ	24
Have respect for bread	رُوفٰت کی مرتب کر کے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	أَكْرَمُوا النُّخْبَرِ	4	Our slaves are ones from among us	ماں سے خاص مارے گئے ہیں (ان جس ..... طرفی)	مَوَالِيْنَا هُنَّا	25
Publicize marriage	لَوْلَانِي اخْتَارَ كَوَافِرَ (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	أَغْلَنُوا النِّكَاحَ	5	The believer is one who repents	مُؤْمِن کارواد کرنے والے (ست ..... مامک)	الْمُؤْمِنُ مُكَفَّرٌ	26
Remain at home	گھر سے پڑے رہو (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْزَمْوُ الْبَيْتَ	6	The monopolist is cursed	ذخیرہ اندوز طباون ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ	الْمُخْتَكِرُ مُلْفُونٌ	27
Engage in gift giving it will increase your love for each other	آنس میں جو دی و بھتی ہے اگر (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	تَهَادُوا تَحَانُوا	7	The counselor/advisor is a trustee	جس سے مدد ایجاد کے ملائکہ رہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ	الْمُسْتَنْدَارُ مُؤْتَمِنٌ	28
War is deception	جنگ میں دو اکر ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْحَزْبُ حَدْثَةٌ	8	The one who wears shoes is a traveler	جو جسے والاسارہ ہے (ان ..... میں مارے)	الْمُتَسَقِّلُ زَاكِبٌ	29
To die from fever is a type of Martyrdom	نَفَرٌ (کی موت) کی شہادت ہے (ان ..... ہیں)	الْخَلْقِي شَهَادَةٌ	9	A prophet does not leave behind any inheritance	نَبِيٌّ میں بھراث نہیں رہتی (ان ..... ہیں)	النَّبِيُّ لَا يَرْثُ	30
The religion (of Islam) is the giving of good advice (or Sincerity)	دین خوبی کی رہائی ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الَّذِينَ النُّصِيْحَةُ	10	The feeling of regret is repentance	ندامت آپا تھے (ان میں ..... ہو)	النَّدَمُ تَوْبَةٌ	31
Walk straight on the path of the shariah and you will obtain Jannah	سیدھے پڑا رہ بے تے جو (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	سَدَّدُوا قَارِبُوا	11	— with at night	توکی تمازرات میں ہے (ان میں ..... ہو)	الْوَقْرِ بَلَلٌ	32
Patience is the highest form of happiness	برکر بر رضاۓ اکی ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الصَّبْرُ رِحَماً	12	Don't ask for death	موت کی تھنیت کیا کرو (خوبی ..... ہو)	لَا تَتَمَنُوا الْمَوْتَ	33
Fasting is a shield	بُرَاءَةُ مَعَالِمٍ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الصَّوْمُ حِجَةٌ	13	Don't get angry	خُدُوت کر (تجھیز ..... ہو)	لَا تَعْظِبُ	34
(To believe in) an evil omen is equal to associating partners with ALLAH	بدَلَلْ تَرْكِبٌ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الظَّبِيرَةُ شَرِكٌ	14	Don't harm (anyone) and don't allow yourself to be harmed	خُضُر و خُضُر بُرُولو (ان میں ..... ہو)	لَا حُضُرٌ وَلَا خَرَازٌ	35
The things you borrow must be returned	مُكْلِفٌ مُنْعَلِفٌ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْغَارِيْثَةُ مُؤَدِّيَةٌ	15	There is no bequest for an heir	وارث کو وصیت نہیں رہتی (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ	36
A promise is like a loan	وَعْدٌ بُوكُولْ قَرْضٌ کے ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْعِدَةُ دَيْنٌ	16	Allah's hand is with the group	نَادَتْ كَرْتَاجِيَّةَ قَدِيمَةَ (ان میں ..... ہو)	بِذِ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ	37
The evil eye is a reality	نَحْرَقَ بَنَانِ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	النَّفِنُ حَقٌّ	17	Worship ALLAH the Merciful	رَبِّنِي کی بِراہت کر (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	أَغْدُوْا الرَّحْمَنَ	38
Paradise is a reality	بَنَانِ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	النَّجَّةُ حَقٌّ	18	Spread the greeting (i.e. As-Salaamu Alaikum)	سلام پھیلاؤ (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	أَشْفِعُوا السَّلَامَ	39
The meeting with ALLAH on the Day of Judgment is a reality	اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُ ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	لَقَاءُكُمْ حَقٌّ	19	Feed the hungry	بِحَوْلَوْنِ كَوْكَبِيَّا مَكَارُو (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	أَطْعِمُوا الطَّعَامَ	40
There are blessings in goats	کبری میں رکت ہے (بَارِز) مَنْ يَعْلَمُ (مَوْلَانِي سعید ..... حَدِيثُ مُحَمَّد)	الْغَنِمُ بَرْكَةٌ	20				